



## سوال

(736) اوئیس قرنی، تبریز، علاج کے بارے میں معلومات

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اوئیس قرنی، شمس تبریز اور منصور علاج کا اصل واقعہ اور اس کی گرفت قرآن و سنت سے کریں۔ (سائل) (۵ مئی ۱۹۹۵ء)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اوئیس قرنی کے فضائل و مناقب ”صحیح مسلم“ وغیرہ میں موجود ہیں، وہاں سے ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں، آپ نے اس کو خیر التابین قرار دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ **فَلْيَسْتَنْفِرْ لَكُمْ (صحیح مسلم، باب من فضائل أوئیس القرنی رضی اللہ عنہ، رقم: ۲۵۳۲)**

یعنی ”اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے اپنے لیے دعا استغفار کرانا۔“

مشکوٰۃ کے حاشیہ پر ہے اس حدیث سے اوئیس قرنی کی بڑی عمدہ فضیلت ثابت ہوئی۔ اوئیس قرنی تابعین میں سے ہے۔ صحابی نہیں۔ ہر چند حضرت ﷺ کے وقت میں موجود تھے۔ لیکن ماں کی خدمت سے فرست نہ پائی کہ حضرت ﷺ کے حضور میں حاضر ہوتے۔ اس حدیث سے اوئیس قرنی کی صحابہ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ تابعین اصحاب سے افضل نہیں ہو سکتا صرف دعائے ثابت کرانے سے افضلیت نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ خود حضرت ﷺ نے اپنے واسطے بعض لوگوں سے دعا کروائی ہے۔ بلکہ پانچوں وقت کی اذان میں تمام امت سے اپنے مقام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے دعا کرنے کو فرمایا ہے۔ (حاشیہ غزنوی: ۵۳۸۳)

اس کے بارے میں بہت ساری بے بنیاد باتیں بھی مشہور ہیں۔ مثلاً اس نے سنا کہ نبی ﷺ کے بعض دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اس نے اپنے دانت توڑ لیے۔ صرف اس خیال پر شاید کہ فلاں دانت ہو یا فلاں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح شمس تبریز کے بارے میں بھی لوگ بہت ساری بے پرکی اڑاتے ہیں جن کا کوئی اصل نہیں اور پھر حسین بن منصور علاج کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ زندقہ کے الزام میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔

شیخنا محدث روپڑی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہتے ہیں: حسین بن منصور علاج بڑا عابد تھا۔ ہر رات ہزار رکعت نفل پڑھتا۔ جب اس کی زبان سے **أَنَا النَحْسُ** (میں خدا ہوں) کا کلمہ نکلا تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے اور دوسرے بزرگوں نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اور سولی پر کھینچ دیا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی **”اخبار الانبیاء“** میں لکھتے ہیں کہ: خواجہ نظام الدین اولیاء سے لوگوں نے پوچھا کہ حسین بن منصور علاج کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: مردود ہے۔ جنید نے اس کو

